


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Appeal No. 981/2024


S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	12/07/2024	<p>The appeal of Mr. Noor Muhammad resubmitted today by Mr. Taimur Ali Khan Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on 19.07.2024. Parcha peshi given to the counsel for the appellant.</p> <p>By the order of Chairman  REGISTRAR</p>

The appeal of Mr. Noor Muhammad received today i.e on 10.07.2024 is incomplete on the following score which is returned to the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Address of appellant is incomplete be completed according to rule-6 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal rules 1974.
- 2- Appeal has not been flagged/marked with annexures marks.
- 3- Annexures of the appeal are unattested.
- 4- Affidavit is not attested by the Oath Commissioner.
- 5- Annexures B&L are illegible.
- 6- Four more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 314 /Inst./2024/KPST,

Dt. 10/7 /2024.


OFFICE ASSISTANT
SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTUNKHWA
PESHAWAR.

Taimur Ali Khan Adv.
Huigh Court at Peshawar.

Respected Sir,

- 1- Removed.
- 2- Removed.
- 3- Removed.
- 4- Removed.
- 5- Removed, legible copies are attached.
- 6- Removed, copies attached.

All the objections, which raised on appeal are hereby removed and resubmitted.

Jh S M
Adv: Shakerullah Torani -

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

SERVICE APPEAL NO. 981 /2024

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 14002

Dated 5/7/2024

Noor Muhammad

VS

Police Department

INDEX

S.No	Documents	Annexure	Page No.
01	Memo of Appeal	-----	01-05
02	Affidavit	-----	06
03	Copy of commendation certificate	A	07
04	Copy of FIR	B	08
05	Copies of show cause notice and reply to show notice	C&D	09-10
06	Copies of charge sheet along with statement of allegations and reply	E&F	11-14
07	Copy of inquiry report	G	15-17
08	Copies of final show cause notice and reply	H&I	18-19
09	Copies of order dated 27.02.2024, departmental appeal and rejection order dated 21.06.2024	J,K&L	20-22
10	Copy of anonymous complaint	M	23
11	Vakalat Nama	-----	24

APPELLANT

THROUGH:

(TAIMUR ALI KHAN)
ADVOCATE HIGH COURT
Cell No.03339390916

&

(SHAKIR ULLAH TORANI)
ADVOCATE

1

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR.

SERVICE APPEAL NO. 981 /2024

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 14002

Dated 05/07/24

Noor Muhammad, Ex-LHC No.320,
Police Lines, Hangu, **DISTRICT HANGU.**

(APPELLANT)

VERSUS

1. The Regional Police Officer, Kohat Region, Kohat.
2. The District Police Officer, Hangu.

(RESPONDENTS)

APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL ACT, 1974 AGAINST THE ORDER DATED 27.02.2024, WHEREBY THE APPELLANT HAS BEEN DISMISSED FROM THE SERVICE AND AGAINST THE ORDER DATED 21.06.2024, WHEREBY THE DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT WAS REJECTED FOR NO GOOD GROUNDS.

PRAYER:

THAT THE ACCEPTANCE OF THIS APPEAL, THE IMPUGNED ORDERS DATED 27.02.2024 AND DATED 21.06.2024 MAY PLEASE BE SET ASIDE AND THE APPELLANT MAY KINDLY BE REINSTATED INTO SERVICE WITH ALL BACK AND CONSEQUENTIAL BENEFITS. ANY OTHER REMEDY WHICH THIS AUGUST TRIBUNAL DEEMS FIT AND APPROPRIATE THAT MAY ALSO BE AWARDED IN FAVOUR OF APPELLANT.

RESPECTFULLY SHEWETH:
FACTS:

1. That the appellant was appointed in the police department as Constable in the year 2006 and with the passage of time promoted to the rank of LHC and since his appointment, the appellant was performing his duty with devotion and honesty, whatsoever, assigned to him and no complaint has been filed by his superiors regarding his performance.
2. That the appellant was performing his duty with best of his ability and capability and in this respect commendation along with cash reward was awarded to the appellant for his best performance. **(Copy of commendation certificate is attached as Annexure-A)** ✓
3. That the appellant was performing his duty in Police Lines Hangu and on 02.12.2023, he was present in Shahu Chock Hangu Bazar; where, he saw Muhammad Israfeel and, as the cousins of Muhammad Israfeel who were living together in same home were previously involved in narcotics cases, therefore, the appellant called IHC Umar Farooq of Police station City Hangu to come to the spot to search Muhammad Israfil on which IHC Umar Farooq came to the spot and when IHC Umer Farooq searched Muhammad Israfeel, 45 gm of Charas were recovered from him and FIR was also registered against Muhammad Israfeel. **(Copy of FIR is attached as Annexure-B)** ✓
4. That show cause notice was issued to the appellant which was duly replied by the appellant in which he denied the allegations and gave the real facts about the allegations in detail and mentioned in his reply about the baseless allegations were leveled against him and he was innocent. **(Copies of show cause notice and reply to show notice are attached as Annexure-C&D)** ✓
5. That charge sheet along with statement of allegations were issued to the appellant. The appellant submitted his reply to the charge sheet and mentioned in his reply that reply to show cause notice may be considered his reply to charge sheet. **(Copies of charge sheet along with statement of allegations and reply are attached as Annexure-E&F)** ✓
6. That inquiry was conducted against the appellant, but no opportunity of defense was provided to the appellant during the inquiry proceeding as neither statements was recorded in the presence of the appellant nor gave him opportunity of cross examination and the inquiry officer himself cross examined the appellant and without conducting regular and proper inquiry by the inquiry officer to dig out the reality about the allegations, the inquiry officer hold the appellant guilty on presumption basis. **(Copy of inquiry report is attached as Annexure-G)** ✓

7. That final show cause was issued to the appellant. The appellant submitted his reply to the final show cause notice in which he once again denied the allegations and mentioned in his reply that that he has already given reply to show cause notice and charge sheet and the allegations leveled against him are baseless and there is no truth in that allegations. **(Copies of final show cause notice and reply are attached as Annexure-H&I)** ✓
8. That on the basis of above baseless allegations and without conducting proper and regular inquiry, the appellant was dismissed from service vide order dated 27.02.2024. The appellant filed departmental appeal on 28.02.2024 against the dismissal order dated 27.02.2024, which was rejected on 21.06.2024 for no good grounds. **(Copies of order dated 27.02.2024, departmental appeal and rejection order dated 21.06.2024 are attached as Annexure-J,K&L)**
9. That the appellant has no other remedy except to file the instant appeal in this Honorable Tribunal for redressal of his grievance on the following grounds amongst others.

GROUND:

- A) That the impugned orders dated 27.02.02024 and 21.06.2024 are against the law, rules, facts, norms of justice and material on record, therefore, not tenable and liable to be set aside.
- B) That inquiry was not conducted by the inquiry officer according to the prescribed procedure because no opportunity of defense was provided to the appellant during the inquiry proceeding as neither statements was recorded in the presence of the appellant nor gave him opportunity of cross examination which is violation of law and rules and as such the impugned orders are liable to be set aside on this ground alone.
- C) That the inquiry officer himself cross examined the appellant and without conducting regular and proper inquiry by the inquiry officer to dig out the realty about the allegations, the inquiry officer hold the appellant guilty on presumption basis which is not permissible under the law and as such the impugned orders are liable to be set aside.
- D) That one of the allegation against the appellant was that as per your reliable information routed through of I/C DSB Hangu regarding smuggling of 07 Kg Charas on 02.012.2023 from Shahu Khel to District Karak handed over to Muhammad Israfeel S/O Muhammad Ishaq r/o Shahu Khel Hangu by the narcotic seller namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o District Orakzai, IHC Umar Farooq was arrested the said smuggler/carrier at Shahu Chowk Hangu by affecting


4

the recovery of 07 Kg charas, but the appellant clearly mentioned in his reply to show cause notice that 45g was recovered from Muhammad Israfeel by IHC Umar Farooq and in this respect proper FIR has been lodged against by him IHC Umar Farooq and he has no knowledge about 07 Kg charas, but despite that the appellant was punished on baseless allegations.



- E) That other allegation leveled against the appellant is that Israfeel (narcotics carrier) told to the narcotics owner that the police recovered 07 kg charas from him, but later on amount (bribe) was given to the police and consequently released him but the appellant clearly mentioned during the cross exam by the inquiry officer that he has not signed the bail band on which Muhammad Israfeel was released, but despite that the inquiry officer mentioned in inquiry report that the less amount of narcotics was shown in FIR against the Muhammad Israfeel due to the information of appellant and later he was also released on the bail bond of the appellant without not conducting proper inquiry to dig out the realty about the allegation and the appellant was held guilty on presumption basis which is against the law and rules and as such the impugned orders are liable to be set aside.
- F) That IHC Umar Farooq has recovered 45 gm charas from Muhammad Israfeel and in this respect FIR was also lodged against him by the IHC Umar Farooq and gave also that statement to the inquiry about the recovery of 45 gm charas from Muhammad Israfeel, but despite that the appellant was punished on baseless statement of Muhammad Israfeel of 07 Kg charas without providing opportunity of cross examination to the appellant on Muhammad Israfeel by the inquiry officer which is against the norms of justice and fair play.
- G) That in show cause notice it was mentioned as per your reliable information routed through of I/C DSB Hangu regarding smuggling of 07 Kg Charas on 02.012.2023 from Shahu Khel to District Karak handed over to Muhammad Israeel s/o Muhammad Ishaq r/o Shahu Khel Hangu by the narcotic seller namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o District Orakzai, IHC Umar Farooq was arrested the said smuggler/carrier at Shahu Chowk Hangu by affecting the recovery of 45 gm charas from his possession instead of 07 Kg charas and the inquiry officer also relay on this reliable information routed through of I/C DSB Hangu without conducting regular and proper inquiry to dig out the realty about allegations and punishment on reliable information/source without conducting proper and regular inquiry was discourage by the Superior Courts in plethora of judgments

- 1-3
- 5
- H) That in charge sheet, final show cause and impugned dismissal order dated 27.02.2024 it was mentioned that as per information received from the worthy Regional Police Officer, Kohat Region Kohat vide Endst No.2309/C. Cell dated 14.12.2023 regarding of 07 kg Charas on 02.012.2023 from Shahu Khel to District Karak handed over to Muhammad Israfil S/O Muhammad Ishaq r/o Shahu Khel Hangu by the narcotic seller namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o District Orakzai, IHC Umar Farooq was arrested the said smuggler/carrier at Shahu Chowk Hangu by affecting the recovery of 45 gm from his possession instead of 07 Kg charas and the Regional Police Officer, Kohat Region Kohat took this action on the basis of anonymous complaint against the appellant and as per instruction anonymous complaints should normally be filed. **(Copy of anonymous complaint is attached as Annexure-M)**
- I) That it is the constitutional right of the appellant to provide fair opportunity under Article-10-A of the Constitution of Islamic republic of Pakistan but in the case of the appellant no fair opportunity of defense was provided to the appellant during the inquiry proceeding which is clear violation of Article-10-A of the Constitution of Islamic republic of Pakistan.
- J) That the appellant has been condemned unheard and has not been treated according to law and rules and has been punished for no fault on his part and as such the impugn orders dated 27.02.2024 and 26.06.2024 are liable to be set aside.
- K) That the appellant seeks permission of this Honorable Tribunal to advance others grounds and proofs at the time of hearing.

It is, therefore, most humbly prayed that the acceptance of this appeal, impugned orders dated 27.02.2024 and dated 21.06.2024 may please be set aside and the appellant may kindly be reinstated into service with all back and consequential benefits. Any other remedy which this Honorable Tribunal deems fit and appropriate that may also be awarded in favour of appellant.


(SHAKIR ULLAH TORANI)
ADVOCATE

THROUGH:


APPELLANT
Noor Muhammad

(TAIMUR ALI KHAN)
ADVOCATE HIGH COURT

LA
b
THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

SERVICE APPEAL NO. _____/2024

Noor Muhammad

VS

Police Department

AFFIDAVIT

I, Noor Muhammad, Ex-LHC No.320, Police Lines Hangu, (Appellant) do hereby affirm and declare that the contents of this service appeal are true and correct and nothing has been concealed from this Honorable Tribunal.



DEPONENT

No. 210/10
Dated 1/1/19

Deputy Inspector General of Police
Kohat Region, Kohat

Cash Reward Rs. 500/- (Five hundred)

In recognition of his good performance

Resident of Mohallah Village: City
District: Hangra

To: LHC Noor Muhammad No. 320

Mr. Tayyab Hayee, Chemist PSE
Deputy Inspector General of Police, Kohat Region

Granted By

CLASS II
Recommendation Certificate



RECOMMENDATION CERTIFICATE

A
②
⑦

AMIC 8/2/75
02.02.75

Musiq

Handwritten text in Urdu script, appearing to be a letter or report. The text is dense and covers most of the upper half of the page.

انتظامی اطلاع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16

انتظامی اطلاع

انتظامی اطلاع

(1) 0-3-75

① B ②

...

203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔
 203 احسان کنستبل HC 9 قرقہ مری کھانہ اتھارٹی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔

1	تاریخ وقت رپورٹ	فاکٹری چور 02/12/2023 18:30 بجے
2	مقامی پولیس اسٹیشن	03339601898, 9HC قرقہ مری
3	پتہ	9 A CNSA
4	مقامی پولیس اسٹیشن	مقامی پولیس اسٹیشن
5	مقامی پولیس اسٹیشن	0331-5244582
6	مقامی پولیس اسٹیشن	14101-8868756-9
7	مقامی پولیس اسٹیشن	مقامی پولیس اسٹیشن

تاریخ وقت: 02/12/2023 17:50 بجے
 مقام: قرقہ مری کھانہ اتھارٹی
 پولیس اسٹیشن: قرقہ مری کھانہ اتھارٹی

اطلاع دی گئی ہے

BETTER COPY

⑧ B Better copy



C 9

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU
Tel No. 0925-623878 & Fax No. 0925-620135
Email: dpohangu8@gmail.com

SHOW CAUSE NOTICE
(Under Rule 5(2) KPK Police Rules, 1975)

1. That you, LHC Noor Muhammad No. 320 posted at Police Lines, Hangu have rendered yourself liable to be proceeded under Rule 5 (2) of the Khyber Pakhtunkhwa, Police Rules 1975 (Amendment 2014) for following misconduct;
 - i. As per your reliable information routed through of I/C DSB Hangu regarding smuggling of 07 Kg charas on 02.12.2023 from Shahu Khel to District Karak handed over to Muhammad Israfil s/o Muhammad Ishaq r/o Shahu Khel, Hangu by the narcotic seller namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o District Orakzai, IHC Umar Farooq was arrested the said smuggler/carrier at Shahu Chowk Hangu by affecting the recovery of 45 gm charas from his possession instead of 7 kg charas.
 - ii. It has reportedly been noticed that Israfil (narcotics carrier) told to the narcotics owner that the police recovered 7 kg charas from him, but later on amount (bribe) was given to the police and consequently released him.
 - iii. Actually in this matter your malicious is ascertained. You being a member of disciplined force showing your indulged in corruption such as there is zero tolerance for corruption which is untenable.
2. That by reason of above, as sufficient material is placed before the undersigned, therefore it is decided to proceed against you in general Police proceeding without aid of enquiry officer.
3. That the misconduct on your part is prejudicial to good order of discipline in the Police force.
4. That your retention in the Police force will amount to encourage in efficient and unbecoming of good Police officers.
5. That by taking cognizance of the matter under enquiry, the undersigned as competent authority under the said rules, proposes stern action against you by awarding one or more of the kind punishments as provided in the rules.
6. You are, therefore, called upon to show cause as to why you should not be dealt strictly in accordance with the Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 (Amendment 2014) for the misconduct referred to above.
7. You should submit reply to this show cause notice within 07 days of the receipt of the notice failing which an ex-parte action shall be taken against you.
8. You are further directed to inform the undersigned that you wish to be heard in person or not.
9. Grounds of action are also enclosed with this notice.

No. 200 /EC,

Dated: 11/12 /2023


DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU

(10)

D

جناب عالی!

بجوالہ بشہ و شہ شوکا نوٹس نمبر 200/EC 11-12-2023 مجاریہ جناب DPO صاحب ہنگو معروض خدمت ہوں کہ عرصہ 6/7 ماہ سے پولیس لائن ہنگو میں جنرل ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہوں۔ مورخہ 02-12-2023 کو اپنی ذاتی کام کے سلسلے میں ہنگو بازار گیا تھا۔ بمقام شاہوں چوک محمد اسرافیل ولد محمد اسحاق سکند شاہ ہوخیل ہنگو کو شاہوں چوک میں مشکوک حرکات و سکنات کرتا ہوا پایا۔ چونکہ قبل اس میں تھانہ شی میں بطور DFC اور دیگر مختلف مقامات پر جنرل ڈیوٹی سرانجام دے چکا ہوں۔ بدیں وجہ میں مسکی محمد اسرافیل کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو منشیات سمگلنگ میں ملوث رہا ہے۔ جن کی حرکات و سکنات کو مشکوک پانے پر بحیثیت پولیس افسر میں نے بروقت گشت انچارج عمر فاروق IHC کو اطلاع دی۔ عمر فاروق IHC بمعہ نفری شاہوں چوک آکر مذکورہ مشکوک مشین محمد اسرافیل کے نشانہ بھی کر کے عمر فاروق IHC نے محمد اسرافیل کو جامہ تلاشی لی۔ جن کے قبضے سے 45 گرام چرس برآمد کر کے گرفتار کیا اور مزید قانونی کارروائی کیلئے تھانہ شی منتقل کیا۔ مورخہ 03-12-2023 کو جناب SHO صاحب تھانہ شی نے مجھے تھانہ طلب کر کے مندرجہ بالا وقوعہ کی وضاحت طلب کی میں نے SHO صاحب کو تمام حالت واقعات بتلائے SHO صاحب نے کہا کہ مجھے انفارمیشن ہے کہ محمد اسرافیل اور کزئی سے 7 کلو ملکیٹی منشیات ڈیلر خان وزیر کو ضلع کرک سمگل کر رہا تھا۔ جس کو پولیس نے گرفتار کر کے اب اس نے مالک خان وزیر سے مبلغ دو لاکھ روپے تاوان کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ میں نے SHO صاحب اسی وقت حلفا بتلایا۔ کہ اسرافیل کے متعلق مجھے اس حد تک علم ہے کہ ان سے 45 گرام چرس کی ریکوری ہو کر مقدمہ جرم 9 A CNSA درج ہوا ہے۔ بقایا مجھے معلوم نہیں۔

عالی جان میں مندرجہ بالا حالت و واقعات کے علاوہ کسی قسم کے دیگر کہانی کے متعلق علم نہیں رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ محمد اسرافیل نے خود چرس خرید کر کے منشیات کے اصل مالک خان وزیر سے چرس اپنی تصرف میں لانے اور مزید ان سے درج شدہ FIR کو جواز بنا کر مبلغ دو لاکھ روپے ہڑپ کر نیکی منصوبہ بندی کی ہو۔ مجھے بحیثیت پولیس افسر علم ہوتا تو ضرور اپنے سنیر افسران کے نوٹس میں لے آتا۔ میں حلفا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں نے 7 کلو چرس پکڑے ہے اور نہ ہی رقم ہوانے میں اسرافیل کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے کسی قسم کی رقم بطور رشوت یا چرس کی خرید برد میں محمد اسرافیل کا بالواسطہ یا بلاواسطہ ساتھ دیا ہے۔

میرے خلاف جو الزامات عائد کئے گئے ہے ان میں بے گناہ ہوں استدعا ہے کہ مذکورہ شوکا نوٹس مزید کارروائی داخل دفتر فرمائی جائے۔

18.12.23



DSP/HQ Hangu

Dairy No. 33

Date: 05-01-24

E

11

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU

Tel No. 0925-623878 & Fax No. 0925-620135
Email: dpohangu@gmail.com

CHARGE SHEET

I. MR. NISAR AHMAD, PSP, QPM, DISTRICT POLICE OFFICER, HANGU, as competent authority under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules (amendments 2014) 1975, am of the opinion that you, LHC Noor Muhammad No. 320 posted at Police Lines, Hangu rendered yourself liable to be proceeded against, as you have omitted the following act/omissions within the meaning of Rule 3 of the Police Rules 1975:-

- i. As per information report received from the worthy Regional Police Officer, Kohat Region, Kohat vide Endst: No.2309/C.Cell, dated 14.12.2023 regarding smuggling of 07 Kg charas on 02.12.2023 from Shahu Khel to District Karak handed over to Muhammad Israfil s/o Muhammad Ishaq r/o Shahu Khel, Hangu by the narcotic seller namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o District Orakzai, IHC Umar Farooq was arrested the said smuggler/cARRIER at Shahu Chowk Hangu by affecting the recovery of 45 gm charas from his possession instead of 7 kg charas.
- ii. It has reportedly been noticed that Israfil (narcotics carrier) told to the narcotics owner that the police recovered 7 kg charas from him, but later on amount (bribe) was given to the police and consequently released him.
- iii. Actually in this matter your malicious is ascertained.
- iv. You being a member of disciplined force showing your indulged in corruption such as there is zero tolerance for corruption which is untenable.

2. By reasons of the above, you appear to be guilty of misconduct under Rule 3 of the Rules ibid and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the Rule 4 of the Rules ibid.

3. You are, therefore, required to submit your written statement within 07 days of the receipt of this Charge Sheet to the enquiry officer.

Your written defense if any should reach the Enquiry Officer within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and ex-parte action shall be taken against you.

4. A statement of allegation is enclosed.


DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU



12

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU
Tel No. 0925-623878 & Fax No. 0925-620135
Email: dpohangu8@gmail.com

DISCIPLINARY ACTION

MR. NISAR AHMAD, PSP, QPM, DISTRICT POLICE

OFFICER, HANGU, as competent authority, am of the opinion that you, **LHC Noor Muhammad No. 320** have rendered yourself liable to be proceeded against departmentally under Khyber Pakhtunkhwa Police Rule 1975 (Amendment 2014) as you have committed the following acts/omissions:

- i. As per information report received from the worthy Regional Police Officer, Kohat Region, Kohat vide Endst: No. 2309/C Cell, dated 14.12.2023 regarding smuggling of 07 Kg charas on 02.12.2023 from Shahu Khel to District Karak handed over to Muhammad Israfil s/o Muhammad Ishaq r/o Shahu Khel, Hangu by the narcotic seller namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o District Orakzai, IHC Umar Farooq was arrested the said smuggler/carrier at Shahu Chowk Hangu by affecting the recovery of 45 gm charas from his possession instead of 7 kg charas.
- ii. It has reportedly been noticed that Israfil (narcotics carrier) told to the narcotics owner that the police recovered 7 kg charas from him, but later on amount (bribe) was given to the police and consequently released him.
- iii. Actually in this matter your malicious is ascertained.
- iv. You being a member of disciplined force showing your indulged in corruption such as there is zero tolerance for corruption which is untenable.

2. For the purpose of scrutinizing the conduct of said accused with reference to the above allegations DSP HQ/CA is appointed as enquiry officer. The enquiry officer shall in accordance with provision of the Police Rule-1975, provide reasonable opportunity of hearing to the accused official, record his findings and make, within twenty five days of the receipt of this order, recommendations as to punishment or other appropriate action against the accused official.

The accused official shall join the proceeding on the date, time and place fixed by the enquiry officer.

**DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU**

No. 253 /EC, dated 29 / 12 /2023.

Copy of above to:-
The _____ :- The Enquiry Officer for initiating proceedings against the accused under the provisions of Police Rule-1975.

The **Accused official**:- with the directions to appear before the Enquiry Officer, on the date, time and place fixed by him, for the purpose of enquiry proceedings.

Handwritten notes in Urdu, including the word "میترو" (Metro) and various mathematical or technical expressions.

Handwritten notes on the left side, including "X+X" and "M/M".

Handwritten notes below the main text, including "M/M" and "X+X".



Handwritten text "3-1-24" next to the stamp.

Handwritten notes below the stamp, including "29-12-23" and "25/EC".

Handwritten number "0332-9688976" at the bottom of the page.

Handwritten notes at the bottom, including "320" and "M/M".

A circled number "13" at the bottom center.

The letter "F" below the circled number.

ضلع ہنگو

مورخہ 17/1/2024

9

15

دفتر ایس۔ ڈی۔ پی۔ او۔ سی ہنگو

نمبر SDPO/ 72

انکوائری رپورٹ ازالہ LHC نور محمد نمبر 320 متعینہ پولیس لائن ہنگو

جناب عالی!

بحوالہ مشمولہ شوکاژ نوٹس نمبری 200 مورخہ 12.11.2023، چارج شیٹ نمبری 253 مورخہ 29.12.2023، ڈائری نمبری 1181 مورخہ 14.12.2023 کمپلیٹ سیل ریجنل پولیس آفیسر کوہاٹ ریجن اور ڈائری نمبری 2309/CC Cell مورخہ 14.12.2023 کمپلیٹ سیل ہنگو معروض خدمت ہوں کہ SHO تھانہ سی ہنگو نے مورخہ 04.12.2023 کو ایک انفارمیشن رپورٹ جناب DPO صاحب ہنگو کو ارسال کی تھی۔ نقل انفارمیشن رپورٹ لف ہذا ہے۔

1- انفارمیشن رپورٹ کا متن:-

باذوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مسمی خان دزیر ولد سید وزیر سکنہ اور کزنی نے 07 کلو چرس محمد اسرافیل ولد محمد اسحاق سکنہ شاہ خیل کو ضلع کرک سہگل کرنے کے لئے حوالہ کی۔ بعدہ مورخہ 02.12.2023 کو نور محمد LHC متعینہ پولیس لائن کی انفارمیشن پر عمر فاروق IHC نے مذکورہ کو شاہو چوک میں گرفتار کر کے جس کے قبضہ سے 45 گرام چرس برآمد ہو کر CNSA 9A میں مقدمہ درج کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ اسرافیل نے مالک چرس مسمی خان دزیر کو بتلایا کہ 07 کلو چرس اس سے پولیس نے برآمد کر کے بعد میں ایک رشتہ دار پولیس والے کے ذریعے رقم حوالہ کر کے جان چھڑائی ہے۔ معاملہ ہذا میں LHC نور محمد نمبر 320 کی بدیتی معلوم ہوئی ہے۔ لہذا اس بارے میں DSP یا DSB کے ذریعے خفیہ انکوائری کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

2- اس انفارمیشن رپورٹ پر الزام علیہ پولیس آفیسر نور محمد LHC کو جناب DPO صاحب ہنگو کی طرف سے شوکاژ نوٹس جاری ہو کر جو ہذا ہے۔

3- شوکاژ نوٹس میں الزام علیہ پولیس آفیسر نے اپنا تحریری بیان پیش کر کے جو شامل انکوائری ہے۔ بیان کرتا ہے کہ عرصہ 6/7 ماہ سے پولیس لائن ہنگو میں جنرل ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ مورخہ 02.12.2023 کو اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں ہنگو بازار گیا تھا۔ بمقام شاہو چوک محمد اسرافیل ولد محمد اسحاق سکنہ شاہ خیل ہنگو کو شاہو چوک میں مشکوک حرکات و سکنات کرتا ہوا پایا۔ چونکہ وہ قبل ازیں تھانہ سی میں بطور DFC مختلف مقامات پر جنرل ڈیوٹی سرانجام دے چکا ہے۔ بدیں وجہہ مسمی محمد اسرافیل کو ذاتی طور پر جانتا ہے کہ یہ منشیات سہگلنگ میں ملوث رہا ہے۔ جس کے حرکات و سکنات مشکوک پانے پر اس نے بروقت گشت انچارج عمر فاروق IHC کو اطلاع دی۔ عمر فاروق IHC ہمہ نطری شاہو چوک آ کر مذکورہ مشتبہ محمد اسرافیل کی نشاندہی کر کے عمر فاروق IHC نے محمد اسرافیل کی جامہ تلاشی لے کر جس کے قبضہ سے 45 گرام چرس برآمد ہو کر ملزم گرفتار کر کے مزید کارروائی کے لئے تھانہ سی منتقل کیا۔ مورخہ 03.12.2023 کو SHO تھانہ سی نے کہا کہ اسے انفارمیشن ہے کہ محمد اسرافیل ضلع اور کزنی سے 07 کلو منشیات ڈیلر خان دزیر کو ضلع کرک سہگل کر رہا تھا۔ جس کو پولیس نے گرفتار کر کے اب اس نے مالک خان دزیر سے مبلغ 02 لاکھ روپے تاوان کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس نے SHO کو اسی وقت حلفاً بتلایا کہ اسرافیل کے متعلق اسے اس حد تک علم ہے کہ ان سے 45 گرام چرس کی ریکوری ہو کر مجرم CNSA 9A کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے بقایا اسے علم نہیں۔

مندرجہ بالا حالات و واقعات کے علاوہ کسی قسم کے دیگر کہانی کے متعلق اسے علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محمد اسرافیل نے خود چرس خرید کر کرک منشیات کے اصل مالک خان دزیر سے چرس اپنے تصرف میں لانے اور مزید ان سے درج شدہ FIR کو جواز بنا کر مبلغ 02 لاکھ روپے ہڑپنے کی منصوبہ بندی کی ہو۔ اسے بحیثیت پولیس آفیسر علم ہوتا تو ضرور اپنے سینئر افسران کے نوٹس میں لاتا۔ وہ حلفاً قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ نہ اس نے 7 کلو چرس پکڑی ہے اور نہ ہی رقم بٹورنے میں اسرافیل کا ساتھ دیا ہے۔ اس نے کسی قسم کی رقم بطور رشوت یا چرس کی

خرد برد میں محمد اسرافیل کا بالواسطہ یا بلاواسطہ ساتھ نہیں دیا ہے۔

4- الزام علیہ LHC کے بیان سے جناب DPO صاحب ہنگو نے مطمئن نہ ہو کر چارج شیٹ جاری کیا۔ چارج شیٹ لفٹ انکوائری ہذا ہے۔ جس میں من DSP کو انکوائری آفیسر مقرر کر کے اس بارے میں انکوائری کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ جو ذیل انکوائری پراسس عمل میں لائے گئے ہیں۔

انکوائری پراسس:-

1- الزام علیہ نور محمد LHC:-

نے دوران انکوائری پیش ہو کر اپنا تحریری بیان پیش کر کے جو شامل انکوائری ہے بیان کرتا ہے کہ اس کا وہی بیان ہے جو اس نے شوکار نوٹس کے جواب میں دیا تھا۔ جس پر کراس سوالات بھی کیے۔ دوران کراس سوالات بیان کیا کہ یہ درست ہے کہ اس نے ملزم اسرافیل کی گرفتاری کا انفارمیشن فاروق IHC کو دیا تھا۔ البتہ اس کے گرفتاری کے بعد اس کے عقب تھا نہ نہیں گیا تھا۔ اور نہ ہی اس نے ملزم اسرافیل کو چمکے پر چھڑوایا تھا۔ چمکے پر موجود اپنے دستخط سے انکاری ہے البتہ چمکے پر موجود شناختی کارڈ نمبر کے متعلق بیان کیا کہ یہ شناختی نمبر اسکا ہے۔ اسرافیل ملزم کے متعلق بیان کیا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ جبکہ 07 کلو جس کے متعلق بیان کیا کہ ملزم اسرافیل نے اس کو حوالہ نہیں کی ہے۔ اس ڈرامے کے متعلق اس پر سوال کیا کہ یہ ڈرامہ اس نے کہاں تیار کیا تھا۔ جس کے جواب پر اس نے بیان کیا کہ اس کو کوئی علم نہیں ہے اس پر الزام لگایا گیا ہے۔

2- محمد اسرافیل ولد محمد اسحاق سکنتہ شاہ ہودام ہنگو:-

نے دوران انکوائری پیش ہو کر اپنا تحریری بیان پیش کر کے جو شامل انکوائری ہے بیان کرتا ہے کہ مورخہ 02.12.2023 کو ہنگام شاہ ہوتوئے سے خان وزیر قوم مشتی نے 07 کلو جس جو کہ 07 پیکٹوں پر مشتمل تھے حوالہ کر کے جو کہ جہانزیب نامی شخص سکنتہ سرکی بیالہ کو حوالہ کرنے کا کہا گیا۔ جب وہ شاہو چوک نزد ریسکیو 15 گاڑی سے اتر کر کشتہ میں سوار ہو رہا تھا تو اس دوران فاروق تھا نیدار نے گرفتار کر کے اولڈ ریسکیو 15 اور بعدہ تھا نہ سٹی لے گئے۔ اس نے فاروق تھا نیدار کو کہا کہ نور محمد کو فون کرے جو فاروق تھا نیدار نے نور محمد کو فون کر کے نور محمد آیا اسے چمکے پر رہا کیا اور اسے کہا کہ اس نے 02 لاکھ 20 ہزار روپے دے دیے ہیں۔ اگلی صبح اقبال جرم کرنے کے بعد وہ رہا ہوا۔ اسے جس آدمی نے جس دیا تھا اس کو بھی پھر پولیس نے گرفتار کیا۔ لیکن ابھی تک اس شخص نے اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا ہے۔ موقع پر تم نور محمد نے دیا تھا ابھی اسے کہ رہا ہے کہ تم کا بندوبست کرو۔

3- IHC عمر فاروق 16 متعینہ تھا نہ ٹی ہنگو:-

نے دوران انکوائری پیش ہو کر اپنا تحریری بیان پیش کر کے جو شامل انکوائری ہے بیان کرتا ہے کہ مورخہ 02.12.2023 کو اس کی دوسری گشت 12:00 تا 18:00 بجے تھا۔ وہ گشت کی تیاری کر رہا تھا کہ اس دوران نور محمد LHC نے کال کر کے بتایا کہ ایک پرچہ آپ پر کرتا ہوں ایک شخص کے ساتھ جس سے وہ گشت کے لئے تیار ہونے کے بعد گشت پر روانہ ہوا۔ کہ اس دوران دوبارہ نور محمد LHC نے کال کر کے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے۔ جس پر اس نے کہا کہ نزد ریسکیو 15 جس پر LHC نور محمد نے کہا کہ وہ بھی ریسکیو 15 کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا وہ نور محمد LHC کے ساتھ ملا جس نے سامنے موجود ایک شخص کی نشاندہی کی۔ جس کو گرفتار کر کے جامہ تلاشی لینے پراسس کے قبضہ سے جس برآمد ہو کر جو کہ تولنے پر 45 گرام نکلی۔ ملزم کو سیدھا تھا نہ لے جا کر اس کے خلاف جرم CNSA 9A مقدمہ درج کر کے بند باحوالات تھا نہ کیا۔ اور مقدمہ ہذا میں اگلی صبح چالان عدالت کیا دیگر وہ لاعلم ہے۔ جس پر کراس سوالات کیے گئے۔ دوران کراس سوالات بیان کیا کہ وہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد تھا نہ لے گیا تھا۔ اور اس کے عقب نور محمد LHC آیا تھا۔ چونکہ شفیع اللہ ASI کورس پر روانگی پر تھا۔ لیکن تھا نہ میں موجود تھا۔ نور محمد LHC نے اس کو کہا کہ ملزم اسکا پھوپھی زاد ہے۔ اس کو چمکے پر دے دو۔ لہذا اس نے چمکے تحریر کیا اور نور محمد LHC نے اس پر دستخط

17

کیا۔ جو کہ چیکلہ ریکارڈ پر موجود ہے۔

4- LHC شعیب خان 797 مجرور ریسکیو 15:-

نے دوران انکوائری پیش ہو کر اپنا تحریری بیان پیش کر کے جو شامل انکوائری ہے بیان کرتا ہے کہ مورخہ 02.12.2023 کو وہ صبح سے لے کر شام تک اور رات کو بھی ریسکیو 15 چوکی سٹی میں موجود تھا۔ فاروق IHC نے کسی ملزم کو ریسکیو 15 چوکی سٹی نہیں لایا تھا۔ جبکہ دوران کراس بیان کیا کہ ملزم کو ریسکیو 15 ہنگو نہیں لایا گیا تھا۔

5- ملزم محمد اسرافیل کی مجرم CNSA 9A میں گرفتاری ہوئی تھی جسکو نور محمد LHC نے خود ذاتی چیکلہ پر ضمانت پر رہا کیا تھا۔ لہذا تھانہ ریکارڈ سے وہ چیکلہ حاصل کر کے شامل انکوائری ہے۔

6- جس شخص نے ملزم اسرافیل کو 07 کلو چرس حوالہ کی تھی اس کو بھی مقامی پولیس نے گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ علت 1038 مورخہ 03.12.2023 مجرم CNSA 9D تھانہ سٹی ہنگو درج کیا گیا ہے۔ جس میں اس سے مزید 3250 گرام چرس برآمد ہوئی تھی۔ نقل FIR شامل انکوائری ہے۔

7- دوران انکوائری مالک چرس خان وزیر کا بیان لینا ضروری سمجھا جس کے عقب میں جیل جا کر مگر جیل حکام نے تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ وہ مورخہ 09.12.2023 کو رہا ہو چکا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل کارپورٹ شامل انکوائری ہے۔

فائنلنگ:-

جناب عالی!

کی سٹی انکوائری و بیانات سے پایا گیا۔ کہ 7 کلو چرس جو خان وزیر ولد سید وزیر سکند اور کزئی نے محمد اسرافیل نامی شخص کو بغرض پہنچانے جہانزیب نامی شخص سکند سر کی پیالہ علاقہ تھانہ سٹی ہنگو حوالہ کی تھی۔ جو کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت چرس غائب کر کے کرایہ کئے محمد اسرافیل کے خلاف منشیات کے کم مقدار میں مقدمہ کا اندراج نور محمد LHC کے انفارمیشن پر کیا گیا۔ اور بعد میں نور محمد LHC نے اس کا چیکلہ و ضمانت بھی خود کیا۔

لہذا ایسے صورت میں نور محمد LHC کرپٹ پریکٹس خیانت مجرمانہ کا مرتکب پایا جاتا ہے۔ اور انکوائری ہذا سے قصور وار پایا جاتا ہے۔ انکوائری رپورٹ بمراہ مناسب حکم صادر فرما ہے۔

سب ڈویژنل پولیس آفیسر سٹی ہنگو



H 18

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU

Tel: 0925-623878 Fax 0925-620135

No. 06 /EC, dated Hangu the 22/01/2024

FINAL SHOW CAUSE NOTICE

1. I, **NISAR AHMAD, PSP, QPM, District Police Officer, Hangu** as competent authority, under the Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975, (amended 2014), is hereby serve you, **LHC Noor Muhammad No. 320 while posted at Police Lines, Hangu** as follow:-

- i. That consequent upon the completion of inquiry conducted against you by the inquiry officer, in which you have given full opportunity of hearing, but no reasonable response could be given in your self defence and found you in corrupt practices and betrayal/treachery offences thus, held you guilty for the charges leveled against you vide finding No. 72/SDPO, dated 17.01.2024.
- ii. From going, through the finding and recommendations of the inquiry officer, the material on record and other documentary proof including your defense before the inquiry officer.

I am satisfied that you have committed the following acts/omissions, specified in section 3 of the said ordinance.

- i. As per information report received from the worthy Regional Police Officer, Kohat Region, Kohat vide Endst: No. 2309/C.Cell, dated 14.12.2023 regarding smuggling of 07 kg charas on 02.12.2023 from Shahu Khel to District Karak handed over to Muhammad Israfil s/o Muhammad Ishaq r/o Shahu Khel, Hangu by the narcotic seller namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o District Orakzai, IHC Umar Farooq was arrested the said smuggler/carrier at Shahu Chowk Hangu by affecting the recovery of 45 gm charas from his possession instead of 07 kg charas.
- ii. It has reportedly been noticed that Muhammad Israfil (narcotics carrier) told to the narcotics owner that the police recovered 7 kg charas from him, but later on account (bribe) was given to the police and consequently released him
- iii. Actually in this matter your malicious is ascertained.
- iv. You being a member of disciplined force showing your indulged in corruption such as there is zero tolerance for corruption which is untenable.

2. As a result thereof, I, as competent authority, have tentatively decided to impose upon you major penalty provided under the Rules *ibid*.

3. You are, therefore, required to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you also intimate whether you desire to be heard in person.

4. If no reply to this notice is received within 07 days of its delivery in the normal course of circumstances, it shall be presumed that you have no defence to put in and in that case as ex-parte action shall be taken against you.

5. The copy of the finding of inquiry officer is enclosed.


DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU



20

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU

Tel: 0925-623878 Fax 0925-620135

ORDER

This order is passed on the departmental enquiry initiated against LHC Noor Muhammad No. 320 while posted at Police Lines, Hangu under the Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 (Amendment 2014).

Brief facts of the case are as under:-

- i. As per information report received from the worthy Regional Police Officer, Kohat Region, Kohat vide Endst: No. 2309/C.Cell, dated 14.12.2023 regarding smuggling of 07 kg charas on 02.12.2023 from Shahu Khel to District Karak handed over to Muhammad Israfil s/o Muhammad Ishaq r/o Shahu Khel, Hangu by the narcotic seller namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o District Orakzai, IHC Umar Farooq arrested the said smuggler/carrier at Shahu Chowk Hangu by affecting the recovery of 45 gm charas from his possession instead of 07 kg charas.
- ii. It has reportedly been noticed that Muhammad Israfil (narcotics carrier) told to the narcotics owner that the police recovered 7 kg charas from him, but later on account (bribe) was given to the police and consequently released him
- iii. The defaulter being a member of disciplined force indulged in corruption. There is zero tolerance for corruption which is untenable.

He was served with charge sheet and statement of allegations under Khyber Pakhtunkhwa Police Disciplinary Rules 1975 (Amendment 2014) vide this office No. 253/EC, dated 29.12.2023, to which he submitted his reply to DSP HQrs, Hangu who was appointed as Enquiry Officer to conduct departmental enquiry against him. After completion of enquiry, the enquiry officer submitted his findings vide No. 72/SDPO, dated 17.01.2024, in which the delinquent LHC Noor Muhammad No. 320 was held guilty for the charges leveled against him. Consequently, he was called in orderly room on 27.12.2023 and heard in person, but he could not provide a reasonable response in his self-defense. Subsequently, Final Show Cause Notice was issued to him vide this office No. 06/EC, dated 22.01.2024 and he submitted his reply on 29.01.2024, which was also found unsatisfactory.

The charas in question, i.e 7 kg was sold to the narcotic seller, namely Khan Wazir s/o Said Wazir r/o Mian Mela, District Orakzai. He was arrested by the local Police and 3000 grams (3 kgs) of the same narcotics (charas) were recovered from his possession and charged in case vide FIR No. 1038, dated 03.12.2023, u/s 9D-CNSA. This recovery of 3 kgs of narcotics (charas) and the submission of security bonds in the Police Station under his own name to release the aforementioned accused further ascertained the charges against the said delinquent, LHC Noor Muhammad.

Keeping in view of the above and having gone through available record, the undersigned has arrived at the conclusion that due to his maliciously discharging the official duty by extending support to the said accused in selling/ carrying the contrabands/narcotics, violated the law which indicates that he is a stigma in the Police department. Moreover, in these circumstances his retention in Police Department is burden on public exchequer, therefore, I, Nisar Ahmed Khan, PSP, QPM, District Police Officer, Hangu in exercise of the powers conferred upon me under the Rules ibid, dispense with general proceedings, he is hereby dismissed from service with immediate effect.

Order Announced.

OB No. 23

Dated 26/02/2024

No. 918-20 /EC, dated Hangu, the 27/02/2024

Copy of above is submitted to the Regional Police Officer, Kohat Region, Kohat for favour of information, please.

2. DSP HQrs Hangu to collect his official kit immediately.
3. Pay Officer, EC, Reader & OASI for necessary action.


DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU


DISTRICT POLICE OFFICER,
HANGU

K

21

خدمت جناب ریجنل پولیس آفسر، کوہاٹ، ریجن کوہاٹ

درخواست بمراد بحالی نوکری



جناب عالی! گزارش کی جاتی ہے کہ سائل 2006 سے محکمہ پولیس میں بطور کنسٹیبل بھرتی ہوا تھا اور تب سے لے کر اب تک نہایت خوش اسلوبی سے اپنی ذیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ 2023 میں سائل کو ایک غلط الزام پر پھارج شیٹ اور سرٹی آف الیگیشن موصول ہوا جس کا سائل نے تفصیلی جواب جمع کر کے تمام الزامات سے انکار کیا کہ نہ تو محمد اسرائیل کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میں نے کسی قسم کی رشوت لی۔ اس کے بعد محکمہ نے محکمہ انکوائری کی جس میں مجھے اپنی صفائی بیان کرنے کا موقع دیا اور نہ ہی میرے خلاف کوئی ثبوت پیش کیا اور نہ ہی مجھے ان ثبوتوں پر کراس کرنے کا موقع دیا تمام کارروائی میرے موجودگی کے بغیر ہوئی۔ اس کے بعد محکمہ نے مجھے شوکارڈ نوٹس دیا جس کے ساتھ انکوائری رپورٹ لفت نہیں تھی۔ شوکارڈ کے جواب میں بھی میں نے وہی سب کچھ بیان کیا جو چارج شیٹ کے جواب میں کر کے نے بیان کیا تھی اور جہاں تک الزامات کا تعلق ہے ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں اور نہ ہی ان الزامات کا کسی قسم حقیقت سے کوئی واسطہ ہے سائل 18 سال محکمہ پولیس میں اپنے خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ اور محکمہ کے لیے کافی قربانیاں دے چکا ہے۔ یہ تمام الزامات غلط اور بے بنیاد ہے اور DPO صاحب نے مجھے بغیر سننے ہی دیکر دیا۔

لہذا آپ صاحبان سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے محکمہ اپیل کو منظور کرتے ہوئے مجھے اپنی نوکری پر بحال کریں۔

No 1852/E
da 28-02/2024

المرقوم: 28/02/2024

DPO/Hanjua
For Comments & provision
of his service record
along with enquiry file for
further action.

Legal LHC Noor Muhammad

For comment 03039153144

DISTRICT POLICE OFFICER
HANJU.

Regional Police Officer
Kohat Region Kohat 24/2
014

19.05.2024

ORDER.

L

22

This order will dispose of the departmental appeal preferred by Ex- Constable Noor Muhammad No.320 of Operation staff Hangu against the order of District Police Officer, Hangu whereby he was awarded major punishment of dismissal from service vide OB No.83

Brief facts of the case are that as per information report/complaint received from Region Office Kohat vide Endst. No. 2309/C.Cell dated 14.12.2023, Ex-constable Noor Muhammad No.320 has indulged himself in smuggling of contraband and involved in corruption.


District Police Officer, Hangu initiated proper departmental enquiry proceedings against him and Sub Divisional Police Officer, City Hangu was appointed as Enquiry Officer. The Enquiry Officer after fulfillment of codal formalities, submitted his findings wherein the appellant was found guilty of the charges leveled against him. On recommendation of the enquiry officer the District Police Officer, Hangu issued Final Show Cause Notice to him vide No.06/EC dated 22.01.2024 but his reply to the Final Show Cause Notice was found unsatisfactory.

Keeping in view the recommendations of the Enquiry Officer and the above cited circumstances of the case, the delinquent officer was awarded major punishment of dismissal from service vide District Police Officer, Hangu OB No. 83 dated 26.02.2024.

Feeling aggrieved from the order of District Police Officer, Hangu, the appellant preferred the instant appeal. He was summoned and heard in person in Orderly Room held in the office of the undersigned on 29.05.2024. During personal hearing the appellant did not advance any plausible explanation in his defense.

Foregoing in view, I, Sher Akbar, PSP, S.St, Regional Police Officer, Kohat, being the appellate authority, am of considered opinion that the charges leveled against the delinquent officer have been fully established. The punishment of dismissal from service awarded to the delinquent officer is justified and, therefore, warrants no interference. Hence appeal of the Ex-Constable Noor Muhammad No.320 is hereby rejected, being devoid of substance and merit.

Order Announced
29.05.2024


Regional Police Officer,
Kohat Region

No. 5249 /EC, Dated Kohat the 21/6/2024

Copy forwarded to District Police Officer, Hangu for information and necessary viz to his office Memo: No.1859/LB, dated 24.04.2024. His Service Record and Fauji Misal are returned herewith.

Better Copy

Order

This order will dispose off the Departmental appeal preferred by Ex-Constable Noor Muhammad No 320 of Operation Staff Hangu against the order of District Police Officer Hangu whereby he was awarded major punishment of dismissal from service vide OB No. 83

Brief facts of the case are that as per information report/complaint received from Region Office Kohat vide Endst No. 2309/C Cell dated 14.12.2023 Ex-Constable Noor Muhammad No 120 has indulged himself in smuggling of contraband and involved in corruption.

District Police Officer Hangu initiated departmental inquiry proceedings against him and Sub Divisional Police Officer city Hangu was appointed as Enquiry Officer. The Enquiry Officer after fulfillment of codal formalities submitted his findings wherein the appellant was found guilty of the charges against him. On recommendation of the enquiry officer of the District Police Officer Hangu issued Final Show Cause notice to him vide No. 06/FC dated 22.01.2022 but his reply to the final Show cause Notice was found unsatisfactory.

Keeping in view the recommendations of the Enquiry Officer and the above circumstances of the case the delinquent officer was awarded major punishment of dismissal from service of the District Police Officer, Hangu OB No. 83 dated 26.02.2024.

Feeling aggrieved from the order of District Police officer Hangu the appellant preferred the instant appeal. He was summoned and heard person in Orderly Room held in the office of the undersigned on 29.02.2024 during personal hearing ther appellant did not advance any plausible explanation in his defense.

Foregoing in view I Sher Akbar PSP, S.St Regional Police Officer, Kohat, being the appellate authority am of considered opinion that the charges leveled against the delinquent officer have been fully established. The punishment of dismissal from service awarded to the delinquent officer is justified and, therefore, warrants no interference. Hence appeal of he Ex-Constable Noor Muhammad No 320 is hereby being devoid of sustainable and merit.

Order Announced

29.05.2024

Regional Police Officer

Kohat Region

No. _____/EC, Dated Kohat the _____/2024


Copy forwarded to District Police Officer Hangu for informaton and necessary w/r to his office Memo No. 1859/EB, dated 24.4.2024. His service record ad Fauji Misal are returned herewith

M (23)
جناب DIG صاحب کوہاٹ ریجن

مضمون۔ (Information Report) انفارمیشن رپورٹ

103 2309 / c.c.M

جناب عالی! 14-12-2023



گزارش کی جاتی ہے کہ ضلع ہنگو میں تھانہ شی کے حدود میں شاہووام دوج بازار کارہنے والا LHC نور محمد جو پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ہے۔ اور ہنگو پولیس لائن میں صرف چلان کی ڈیوٹی کر رہا ہے۔

جناب والا کچھ دن پہلے شاہووام کارہنے والا مسی اسرافیل نامی ایک یتیم اور نادار لڑکا ہے۔ LHC نور محمد نے اسرافیل نامی لڑکے غریبی اور بھولے پن سے فائدہ اٹھا کر اس پر ضلع اور گزنی سے ایک کرایہ دار میر والی نامی شخص پر 10 کلو چرس منگوائی۔ اور مسی اسرافیل کو کہا کہ میں نے تھانہ شی کے SHO کے ساتھ بات کی وہ آپ کو 100000 روپے دے دیا اور چرس ہم SHO کے حوالے کریں گے۔ مسی اسرافیل نے LHC نور محمد کا کہنا مان کر اسی طرح کام کیا۔ اسرافیل نے چرس نور محمد کے حوالے کیا۔ ایک دو دن بعد LHC نور محمد نے اسرافیل کو ASI فاروق کے حوالے کر کے اسرافیل کو CNSA 9 میں پرچہ دے کر چلان کیا۔ اور بعد میں نور محمد نے اسرافیل کا چنگل از خود کر کے پولیس حوالات سے آزاد کیا۔ اسی دوران SHO تھانہ شی کو پتہ چلا کہ نور محمد نے اس طرح کام کیا ہے۔ SHO تھانہ شی نے اسرافیل اور کرایہ دار دونوں کو پکڑ کر CNSA 9 میں پرچہ دے کر چلان کیے۔ اور ابھی وہ کرایہ دار مسی اسرافیل کے ساتھ جرگے کر رہا ہیں۔ 10 کلو چرس مذکورہ LHC نور محمد نے اپنے گھر میں رکھے ہیں۔ جو شاید ابھی تک فروخت بھی کر چکا ہو۔ اس پہلے بھی نور محمد نے اُس جسے سنگین نسل کش نشہ فروخت کرتا آرہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پوری داستان کا پتہ یعنی علم DPO صاحب ضلع ہنگو کو ہے لیکن پتہ نہیں کہ ابھی تک خرگوش کی نیند کیوں سویا ہوا ہے۔ یا پولیس ڈیپارٹمنٹ میں یہ معمول کی بات ہے۔

جناب والا اس پورے واقعے کو فور سے پڑھ کر صرف یہ سوچے کے پولیس کا کام کیا ہے اور کر کیا رہا ہے معاشرے میں غریب اور بھولے لہو جوانوں کا مستقبل تباہ کرنا ہے۔ اسرافیل جسے لہو جوان کو عادی بنانا ہے۔ جناب اس پورے واقعے کا پتہ افسران بالا کو ہونے کے باوجود LHC نور محمد کا انکو آڑی ہوانہ کوئی سزا ملی

قانونی طور پر معاشرے کے اصولوں پر مذکورہ LHC سنگین اور عبرت انگیز سزا کا حقدار ہے۔ اس LHC نور محمد کا سروس ریکارڈ دیکھے ان جسے مختلف معاملات میں کئی دفعہ ڈسپلن DPOS کو شکایات بھی ملے تھے لیکن سب نے درنگ دے کر معاف کیا ہے۔ آپ صاحبان اس پورے رواد کو باریک بینی سے انکو پڑی کر کے بے گناہ اور موصوم لوگوں کو جرائم پیشہ بننے سے بچائیں۔ اسی طرح جسے اس واقعے میں دو بے گناہ بندوں کو چلان کیا گیا ہے۔ امید ہیں آپ صاحبان اسی طرح معاملات کا از خود نوٹس لے کر معاشرے میں دو خاندانوں کو دشمنی سے بچائیں گے اور سماج دشمن عناصر کو عبرت کا نمونہ بنائیں گے۔ اور اس معاشرے کو تباہی سے بچائیں گے۔ ورنہ یہ مسئلہ ایک خطرناک شکل اختیار کریگا۔

ceaf

سید

Sulaiman

14/12/23

DPO Hangu

For enquiry
and report

Copy to DIG Kohat region

Copy IG Peshawar

Link it
with inquiry.

26-12-2023.

DIG POLICE
KOHAT

VAKALAT NAMA

NO. _____/2024

IN THE COURT OF Khyber Pakhtunkhwa Service

Ariband Peshawar

Noor Muhammad (Appellant)
(Petitioner)
(Plaintiff)

VERSUS

Police Deptt (Respondent)
(Defendant)

I/We, Noor Muhammad

Do hereby appoint and constitute **TAIMUR ALI KHAN, ADVOCATE HIGH COURT**, to appear, plead, act, compromise, withdraw or refer to arbitration for me/us as my/our Counsel/Advocate in the above noted matter, without any liability for his default and with the authority to engage/appoint any other Advocate/Counsel on my/our costs.

I/We authorize the said Advocate to deposit, withdraw and receive on my/our behalf all sums and amounts payable or deposited on my/our account in the above noted matter. The Advocate/Counsel is also at liberty to leave my/our case at any stage of the proceedings, if his any fee left unpaid or is outstanding against me/us.

Dated _____/2024

[Signature]
(CLIENT)

ACCEPTED

[Signature]

TAIMUR ALI KHAN
Advocate High Court

BC-10-4240
CNIC: 17101-7395544-5
Cell No. 03339390916

[Signature]
Adv: *Shaukat Ullah Torani*